


مائیکروسوفٹ ٹیمز میٹنگز میں کیسے شرکت کی جائے؟

یہ گائیڈ آپ کو مائیکروسوفٹ ٹیمز کے بارے میں مزید جاننے اور ان کی میٹنگ میں شرکت کے بارے میں سیکھنے کے لئے رہنمائی کرے گی۔

نیچے دیئے گئے امیجز میں مائیکروسوفٹ ٹیمز کے بنیادی آئیکونز یا فنکشنز (کام یا سرگرمیاں) دکھائے گئے ہیں۔

جب آپ ویڈیو کال کریں گے تو کال کے ذریعے دوسروں سے رابطے کے لئے ان فنکشنز کو استعمال کر سکیں گے۔ مثلاً میٹنگ چیٹ میں آپ اپنا سوال گروپ میں ٹائپ کر سکتے ہیں یا بات کرنے والے شخص کی توجہ حاصل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔



ہدایت

ویب براؤزر کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح مائیکروسوفٹ ٹیمز میٹنگ میں شرکت کی جاسکتی ہے۔

۱۔ اپنا ڈیوائس کھولیں۔ آپ کے اسمارٹ فون یا ٹیبلیٹ میں کیمرہ یا مائیکروفون لازمی انسٹال ہونا چاہئے تاکہ ویڈیو کال پر آپ دوسروں کو دیکھ اور سن سکیں۔

۲۔ اپنا ای میل اکاؤنٹ کھولیں جو جی میل یا آؤٹ لک کے ساتھ رجسٹرڈ ہو۔

۳۔ آرگنائزر کی طرف سے بھیجا گیا ای میل دعوت نامہ کھولیں۔

۴۔ ای میل میں موجود جوائن مائیکروسوفٹ ٹیمز میٹنگ کے آئیکن پر کلک کریں۔

مائیکروسوفٹ ٹیمز میٹنگ میں شرکت

۵۔ براؤزر کے استعمال یا اپنی ڈیوائس پر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے اسکرین پر نظر آنے والی ہدایات پر عمل کریں۔

ایپ کے ذریعے کس طرح مائیکروسوفٹ ٹیمز میٹنگ میں شرکت کی جائے

۱. اگر پہلے سے انسٹال نہیں تو گوگل پلے اسٹور پر جا کر مائیکروسوفٹ ٹیمز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔



۲. آرگنائزری کی طرف سے بھیجا گیا ای میل دعوت نامہ کھولیں۔

۳. میٹنگ شروع ہونے والی ہو تو جوائن ٹیمز میٹنگ کے آئی کون یا لنک پر کلک کریں۔

مائیکروسوفٹ ٹیمز میٹنگ میں شرکت


۴. اوپن نے ٹیمز منتخب کریں پھر جوائن ایز اے گیسٹ (بطور مہمان شرکت) کا انتخاب کریں۔

Join as guest / بطور مہمان شریک ہوں

۵. اپنا نام ٹائپ کریں اور جوائن میٹنگ پر کلک کریں۔

میٹنگ میں شریک ہوں / Join Meeting

۶. آپ اب میٹنگ سے جڑ چکے ہیں اور آرگنائزر جلد آپ کو میٹنگ میں شریک کریں گے۔



مزید تعاون کیلئے:

مانچسٹر ڈیجیٹل چیمپین کی جانب سے فون پر معاونت

آپ کے پاس ایسا ڈیوائس ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے؟

اس کے استعمال کے لئے مدد کی ضرورت ہے؟

ہمارے پاس ڈیجیٹل چیمپینز کی ٹیم موجود ہے۔

جو ٹیلی فون پر مانچسٹر کے رہائشیوں کو مدد فراہم کرے گی۔

پندرہ زبانوں میں کالز کی جاسکتی ہیں۔

اس نمبر پر کال کریں: **07860 064128** یا

digitalinclusion@manchester.gov.uk پر ای میل کریں۔

اپنا نام بتائیں ہم آپ کو خود کال کریں گے اور مدد فراہم کریں گے۔

کووڈ-19 کے دوران رابطے میں رہیں :

آن لائن آنے کے لئے اگر آپ کو مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو کمیونٹی
کووڈ 19 سپورٹ ہیلپ لائن کے نمبر **08002346123** پر کال کریں۔
digitalinclusion@manchester.gov.uk پر ای میل کریں۔

مزید معلومات کے لئے دیئے گئے لنک پر کلک کریں:

https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_connected_through_covid-19_leaflets

This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations:



MANCHESTER
CITY COUNCIL

All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice. We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest downloadable version: <https://buzzmanchester.co.uk/>

For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or lorna.dawson@gmmh.nhs.uk

[Version 7 Android_Urdu_October 2020]